

کیوں؟

یہ محفوظ رویہ جلدی کی وجہ سے ہونے والے واقعات کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔

کیا؟

- ✓ رکیں: کام کو شروع نہ کرنے کا مطلب ہے جب تک کہ آپ اس پر غور نہ کریں کہ اسے کیسے محفوظ طریقے سے مکمل کیا جا سکتا ہے۔
- ✓ سوچیں: ممکنہ خطرات کی نشاندہی کر کے کام کے بارے میں سوچنا
- ✓ ایکٹ: آپ کی نشاندہی کردہ خطرات سے آپ کی حفاظت کے لیے کنٹرولز کو نافذ کرنے کا مطلب ہے۔



سوالات

تجربے پر مبنی سوالات

- کیا آپ نے کبھی ایسا واقعہ دیکھا ہے یا تجربہ کیا ہے جسے Stop, Think, Act استعمال سے روکا جا سکتا ہو؟ کیا ہوا؟
- کیا آپ وہ وقت یاد کر سکتے ہیں جب کام کرنے سے پہلے رکنے اور سوچنے سے آپ یا کسی اور کو حادثے سے بچنے میں مدد ملی؟
- کیا آپ نے کبھی ڈیڈ لائن کو پورا کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات کو چھوڑنے کے لیے دباؤ محسوس کیا ہے؟
- تم نے اسے کیسے سنبھالا؟



کھلے سوالات

- اگر آپ Stop, Think, Act استعمال نہیں کرتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟
- جب آپ نے Stop, Think, Act استعمال کیا تو اس کی کچھ مثالیں کیا ہیں؟
- کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے خطرات کا اندازہ لگانے کے لیے ایک لمحہ نکالنا کیوں ضروری ہے؟



بہتری کے سوالات کو تلاش کریں۔

- کچھ رکاوٹیں کیا ہیں جو لوگوں کو Stop, Think, Act کو مسلسل استعمال کرنے سے روکتی ہیں؟ ہم انہیں کیسے مخاطب کر سکتے ہیں؟
- کیا ہمارے کام کی جگہ پر کوئی ایسا کام ہے جہاں Stop, Think, Act خاص طور پر اہم ہے لیکن اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے؟ کیا بہتری مدد کر سکتی ہے؟
- ہم اپنے روزمرہ کے کام کے معمولات میں Stop, Think, Act کی مضبوط ثقافت کی حوصلہ افزائی کیسے کر سکتے ہیں؟



آپ کیا کریں گے؟ - سوالات

- اگر آپ کسی ساتھی کارکن کو خطرات کا اندازہ لگانے کے لیے وقت نکالے بغیر کسی کام میں جلدی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو آپ کیسے مداخلت کریں گے؟
- آپ ایک ایسا کام انجام دینے والے ہیں جو بظاہر معمول کے مطابق لگتا ہے، لیکن کچھ ناگوار محسوس ہوتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو کیا اقدامات کرنے چاہئیں؟
- ایک ساتھی آپ کو بتاتا ہے، "ہمارے پاس رکنے اور سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ ہمیں بس اسے مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔" آپ کو کیسے جواب دینا چاہئے؟

